

# Psa

## Chapter 10

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	לָמָּה	יְהוָה	תַּעֲמֹד	בְּרַחֵק	תַּעֲלִים	לְעַתּוֹת	בְּצָרָה:
	کیوں	اے-یہوواہ	ٹو-کھڑا-ہے	-دور-میں	ٹو-چھپتا-ہے	-وقتوں-میں	مصیبت-کے
	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H7350</a>	<a href="#">H5956</a>	<a href="#">H6256</a>	

ہے؟ رکھتا کیوں پوشیدہ کو آپ اپنے ٹو وقت کے مصیبت ہے؟ کھڑا کیوں ڈور اتنا ٹو رب، اے

2	בְּנֵאֻת	רָשָׁע	יִדְלֶק	עָנִי	וַיִּתְפָּשׂוּ	בְּמִזְמוֹת	זוּ	חֲשׁוּבוּ:
	-غرور-میں	شریر-کے	وہ-جلاتا-ہے	غریب-کو	وہ-پکڑے-جائیں	-چالوں-میں	اُن	جو-اُنہوں-نے-سوچی
	<a href="#">H1346</a>	<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H1814</a>	<a href="#">H6041</a>	<a href="#">H8610</a>	<a href="#">H4209</a>	<a href="#">H2098</a>	<a href="#">H2803</a>

ہیں۔ لگے اُجھنے میں جالوں کے اُن بے چارے اب اور ہیں، گئے لگ پیچھے کے زدوں مصیبت سے تکبر بے دین

3	כִּי-	הִלָּל	רָשָׁע	עַל-	תְּאַוֶּת	נִפְשׁוֹ	וַבִּצְעַ	יְהוָה:
	کیونکہ	فخر-کرتا-ہے	شریر	-پر	خواہش	اپنی-جان-کی	اور-لالچی	یہوواہ-کی
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H8378</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H1214</a>	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H5006</a>

ہے۔ جانتا حقیر کو رب کے کر لعنت والا کمانے نفع ناجائز اور ہے، مارتا شیخی پر آرزوؤں دلی اپنی بے دین کیونکہ

4	رָשָׁע	כְּזָבָה	אָפוּ	בַּל-	יִדְרֹשׁ	אֵין	אֱלֹהִים	כָּל-	מִזְמוֹתָיו:
	شریر	-تکبر-میں	اپنی-ناک-کے	نہیں	ڈھونڈتا	نہیں	خدا	سب	اُس-کی-سوچوں-میں
	<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H1363</a>	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H1077</a>	<a href="#">H1875</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4209</a>

ہے۔ نہیں خدا کوئی کہ ہیں مبنی پر بات اس خیالات تمام کے اُس گا۔ کرے نہیں طلبی جواب سے مجھ اللہ ہے، کہتا کر پھول سے غرور بے دین

5	יְהִי לוֹ	אֲדַרְכּוּן	אֲדַרְכּוּן	בְּכָל-	עֵת	מְרוֹם	מִשְׁפָּטָיִךָ	מִנְגִּדוֹ	כָּל-
	کامیاب-ہیں	اُس-کے-راستے	اُس-کے-راستے	-ہر	وقت	بلند	تیرے-فیصلے	اُس-کی-نظر-سے-دور	سب
	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H4791</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H5048</a>	<a href="#">H3605</a>

اُپنے-دشمنوں-پر وہ-پھونکتا-ہے اُن-پر  
[H6315](#)

ہے۔ بھنکارتا خلاف کے مخالفوں تمام اپنے وہ جبکہ ہیں لگتی ڈور کہیں میں بلندیوں اُسے عدالتیں تیری ہے۔ کامیاب وہ میں اُس کرے بھی کچھ جو

6	אָמַר	בְּלִבּוֹ	בַּל-	אָמַרְט	לְדַר-	זָדַר	אֲשַׁר	לֹא-	בְּרַע:
	وہ-کہتا-ہے	اپنے-دل-میں	نہیں	میں-ڈگمگاؤں-گا	-نسل-در	نسل	جو	نہیں	-بُرائی-میں
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H1077</a>	<a href="#">H1077</a>	<a href="#">H4131</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H3808</a>		

گا۔ رہوں بجا سے پنجوں کے مصیبت نسل در نسل گا، ڈگمگاؤں نہیں کبھی مَمیں ہے، سوچتا وہ میں دل

7	אָלָה	פִּיהוּ	מָלֵא	וּמְרַמֵּת	וְתַד	תַּחַת	לְשׁוֹנוֹ	עָמַל	וְאָוֶן:
	لعنت-سے	اُس-کا-منہ	بھرا-ہوا-ہے	اور-دھوکے	اور-ظلم-سے	-نیچے	اُس-کی-زبان-کے	مشقت	اور-بدکاری
	<a href="#">H0423</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H4820</a>	<a href="#">H8496</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H3956</a>	<a href="#">H5999</a>	<a href="#">H0205</a>

ہے۔ ربتی تیار لئے کے پہنچانے آفت اور نقصان زبان کی اُس رہتا، بھرا سے ظلم اور فریب لعنتوں، منہ کا اُس

8	וַיִּשָׁב	בְּמַאֲרָב	חֲצֵרִים	בְּמִסְתָּרִים	יִהְרָג	נָקָו	עֵינָיו
	وہ-بیٹھا-ہے	گھات-میں	صحنون-میں	چھپی-جگہوں-میں	وہ-قتل-کرتا-ہے	بے-گناہ-کو	اُس-کی-آنکھیں
	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H3993</a>		<a href="#">H4565</a>	<a href="#">H2026</a>		

لְחַלְקָה  
بے-چارے-پر  
گھات-لگائے-بیٹھی-ہیں  
یִצְפְּנוּ:  
[H6845](#)

بیں-رہتی میں گھات کی بدقسمتوں آنکھیں کی اُس ہے، ڈالتا مار کو بے گناہوں سے چپکے کر بیٹھ میں تاک قریب کے آبادیوں وہ

9	יֵאָרֵב	וּבְמִסְתָּר	כְּאֲרִיָּה	בְּסֻכָּה	יֵאָרֵב	לְחַטְוֶף	עֵנִי
	وہ-گھات-لگاتا-ہے	چھپی-جگہ-میں	شیر-کی-مانند	اپنی-کھوہ-میں	وہ-گھات-لگاتا-ہے	پکڑنے-کو	مسکین-کو
	<a href="#">H0693</a>	<a href="#">H4565</a>		<a href="#">H5520</a>	<a href="#">H0693</a>	<a href="#">H2414</a>	<a href="#">H6041</a>

יִחַטֵּף  
وہ-پکڑتا-ہے  
مسکین-کو  
کھینچ-کر  
اپنے-جال-میں  
עֵנִי  
[H6041](#)  
בְּרִשְׁתּוֹ:  
[H7568](#)

لے کر گھسیٹ میں جال اپنے اُسے تو لے پکڑ اُسے جب ہے۔ ڈھونڈتا موقع کا کرنے حملہ پر زدہ مصیبت وہ کر رہ میں تاک طرح کی شیربیر بیٹھے میں جنگل ہے-جاتا

10	וְדַכְּהָ	(וְדַכְּהָ)	יִשְׁחַ	וְנַפְלָ	בְּעֵצוֹנָיו	חֲלֻכָאִים	(חֲלֻכָאִים)	כְּאִים:
	وہ-کچلا-جاتا-ہے	وہ-جھکتا-ہے	وہ-جھکتا-ہے	اور-گرتے-ہیں	اُس-کے-پنجوں-میں	بے-چارے	بے-چارے	بے-چارے
	<a href="#">H1794</a>	<a href="#">H1794</a>	<a href="#">H7817</a>	<a href="#">H5307</a>	<a href="#">H6099</a>	<a href="#">H2489</a>	<a href="#">H2426</a>	<a href="#">H3512</a>

بیں-جاتے گر کر آ میں زد کی طاقت زبردست کی اُس ہے چارے ہیں، جاتے جھک کر بو پاش پاش شکار کے اُس

11	אָמַר	בְּלִבּוֹ	שָׁכַח	אֵל	הַסְתִּיר	פְּנֵיו	בַּל-	רָאָה	לְנִצְחָ:
	وہ-کہتا-ہے	اپنے-دل-میں	بھول-گیا-ہے	خدا	اُس-نے-چھپا-لیا	اپنا-چہرہ	نہیں	وہ-دیکھتا	کبھی
	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H7911</a>	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H5641</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H1077</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H5331</a>

گا۔ اُنے نہیں نظر کبھی یہ اُسے ہے، لیا چھپا چہرہ اپنا نے اُس ہے، گیا بھول [اللہ ہے، کہتا میں دل وہ تب

12	קוֹמָה	יְהוָה	אֵל	נִשָּׂא	יָדָד	אֵל-	תִּשְׁכַּח	עֲנִיִּים	(עֲנִיִּים):
	اُٹھ	اے-یہوواہ	اے-خدا	اُٹھا	اپنا-ہاتھ	نہ	بھول	مسکینوں-کو	مسکینوں-کو
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H7911</a>	<a href="#">H6041</a>	<a href="#">H6035</a>	

بھول-نہ اُنہیں اور کر مدد کی ناچاروں کر اُٹھا ہاتھ اپنا اللہ، اے اُٹھ! رب، اے

13	עַל-	וּמָה	נֶאֱמַר	אֲרָשָׁע	אֱלֹהִים	אָמַר	בְּלִבּוֹ	לֹא	תִדְרֹשׁ:
	پر-	کیا	توبین-کرتا-ہے	شریر	خدا-کی	وہ-کہتا-ہے	اپنے-دل-میں	نہیں	ٹو-ڈھونڈے-گا
		<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H5006</a>	<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1875</a>

گا؟ کرے نہیں طلب جواب سے مجھ [اللہ کہے، کیوں میں دل وہ کرے، کیوں تحقیر کی اللہ ہے دین

14	רָאִתָּה	כִּי-	וְאַתָּה	עָמַלְ	וְנָעַם	תִּבְיֵט	לָתַת	בְּיָדְךָ	עָלֶיךָ	יַעֲזֹב
	ٹو-نے-دیکھا-ہے	کیونکہ	ٹو	مشقت	اور-غم	ٹو-دیکھتا-ہے	دینے-کو	اپنے-ہاتھ-سے	تیرے-اوپر	چھوڑتا-ہے
	<a href="#">H7200</a>		<a href="#">H5999</a>			<a href="#">H5027</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3027</a>		

חֲלֻכָה  
بے-چارہ  
یتیم-کا  
ٹو  
وְאַתָּה  
رہا-ہے  
הָיִיתָ  
مددگار  
עוֹזֵר:  
[H5826](#)

دیتا چھوڑ پر تجھ معاملہ اپنا ناچار گا۔ دے جواب مناسب کر دے دھیان پر پریشانی اور تکلیف ہماری ٹو ہے۔ دیکھتا کچھ سب یہ ٹو میں حقیقت اللہ، اے ہے-مددگار کا یتیموں ٹو کیونکہ ہے،

15	שָׁבַר	זְרוּעַ	רִשְׁעַ	נְרָעַ	תִּדְרֹשׁ-	בַּל-	תִּמְצָא:
	توڑ-دے	بازو	شریر-کا	اور-بُڑے-کی	ڈھونڈ	شرارت-کو	ٹو-پائے
	<a href="#">H7665</a>	<a href="#">H2220</a>	<a href="#">H7563</a>		<a href="#">H1875</a>	<a href="#">H7562</a>	<a href="#">H4672</a>

جائے۔ مٹ اتر پورا کا اُس تاکہ کر طلبی جواب کی شرارتوں کی اُس سے اُس دے! توڑ بازو کا آدمی بے دین اور شریب

16	יְהוָה	מֶלֶךְ	עוֹלָם	וְעַד	אָבְדוּ	גוֹיִם	מֵאֲרָצוֹ:
	یہوواہ	بادشاہ	بمیشہ	تک	فنا-بو-گئیں	قومیں	اُس-کی-زمین-سے
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H5703</a>	<a href="#">H0006</a>		<a href="#">H0776</a>

ہیں۔ گئی بو غائب اقوام دیگر سے ملک کے اُس ہے۔ بادشاہ تک ابد رب

17	תְּאֵוֹת	עֲנָוִים	שְׂמֵעֹת	יְהוָה	תְּכִין	לִבָּם	תִּקְשִׁיב	אָזְנוֹ:
	خوابش	حلیموں-کی	ٹو-نے-سُنی	اے-یہوواہ	ٹو-تیار-کرے-گا	اُن-کے-دل	ٹو-کان-لگائے-گا	اپنا-کان
	<a href="#">H8378</a>	<a href="#">H6035</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3068</a>			<a href="#">H7181</a>	<a href="#">H0241</a>

کردے دھیان پر اُن اور گا کرے مضبوط کو دلوں کے اُن ٹو ہے۔ لی سن آرزو کی ناچاروں نے ٹو رب، اے

18	לְשֹׁפֵט	יְתוּם	וְיָדָךְ	בֵּל-	יוֹסִיף	עוֹד	לְעֶרְךָ	אִנּוּשׁ	מִן-	הָאָרֶץ:
	-انصاف-کرنے-کو	یتیم	اور-مظلوم-کا	نہ	جاری-رکھے	مزید	-ڈرانے-کو	انسان	-سے	زمین
	<a href="#">H8199</a>	<a href="#">H3490</a>	<a href="#">H1790</a>	<a href="#">H1077</a>	<a href="#">H3254</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H6206</a>	<a href="#">H0582</a>		<a href="#">H0776</a>

پھیلائے۔ نہ دہشت میں ملک انسان بھی کوئی آئندہ تاکہ گا کرے انصاف کا مظلوموں اور یتیموں